


٧٠ ځور ځور ته وځو

6 ثر 8 ترؤيرة ثر 2018



شركار وموسود وسركاد

بِدُوَدُ مَبِهِا عَدِيدُ دُرُ وَكُورُهُا



## وزيرعم

| 5  | -1 |
|--|----|
| ې څرنزز ده ښنړ   | .2 |
| 6  | -3 |
| 8  | 4  |
| 4.1 وَرْبِ عَوْدَدِ دُنْوُ مِنْرِدْ نَنْدُوْرْ وَدِمِرْتُهِ عَنْدُ وِرْدُوْ مَرْسِوْ   |    |
| مُوَدُ ١ : وُرْمٍ عَوْدَهِ دُوْدُ مُرْدِرُ وَمَوْدُرُ وَمِرْمُهِ عَرْدُورُدُو مَرْسِوْ   |    |
| غۇر سوشى دۇرۇشى  | -5 |
| 5-1 دَارِ مَرِيْ شِرِيْ  |    |
| 5-1-1 - ورثر عز عربر مر الماسية الماسي |    |
| 11   |    |
| 5-1-3 مَرْمُرُ وَرُوْمٌ عُهَا مِ   |    |
| 5-1-4 يه يُرْمَرُ يَرِّ تُرَهِّ مِ عَبِي مِنْمَرِيرٌ مِّ عَبِ  |    |
| 5.1.5 حَرْدِيْرُوْ تُرَجِّرُ مُّ عَامِرٍ   |    |
| 5.1.6 سوهير تائر مُتَاثِر مُتَاثِرِ مُتَاثِرِ مُتَاثِرِ مُتَاثِرِ عُرِمَةُ عَرِمُهُ عَلَيْهِ مُتَاثِر عَالِمُ وَمُعَاثِدُ مُتَاثِر عَالِمُ عَلَيْهِ |    |
| 5-1-7 سِنْدِ دُوْمُوْدُ  |    |
| 5-1-8 برتبر دَسَهُ تَرَاثُ ثَاعَ بِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّالِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الل |    |
| 5.2 سِدْرٍ وَوْرِوْمَ رِّدِ دُسْتُوْمَدُ وَسُرْمَ وَمُ وَمُوْمِ وَسُرْمَ وَمُوْمِ وَسُرْمَةُ وَسُرُمَةُ وَالْمُ  |    |
| 5.3 سبدر ندر دوردندر کونونونونونونونونونونونونونونونونونونون   |    |
| 17 5.4   |    |
| ١٤ وَرَبِرُ وَرَبِيْرُ سِنْ وَرُوْ   | -6 |
| 18   |    |
| 6-2 كبيرش سيثب زنرورش شفر شفرت   |    |
| 6.3 دُهْ مَرَدَهُ بِدِرْ وَرُوْرُورْ سِدْدٍ وَرُوْ رِجِ بِرِنْرُ   |    |
| 64 عَمَا لَدِ وَمِوْ وَقَامَ وَوَقَوْمَ وَوَقَارُ سِوْرٍ وَوُوْ  |    |
| وه مرد و و و و و و و و و و و و و و و و و و و   |    |
| 6-6  |    |
| 32   | .7 |
| 7·1 وَوَرِوْمُوْدِ دُسِوْمُدُ مَرِ مُوَوْ وَرُوْمُوْمُوْدِ   |    |
| 7.2 درزوجه 7.2   |    |
| هـ زدننزد وزدرزد   | 8- |
| 8.1 وَوَتِ تُرْوَرُ عِنْ مَدُورُ مِنْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ مِنْ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِ |    |

| 8.2 كات مِدْدُ الْمَا الْمُرْدُورِ الْمَاحِدُ وَوَرْدُونِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل |    |
|--|----|
| 36   |    |
| 8-4 كرورتركز شاء وبركر وبريادتري كردانان وهوية   |    |
| 8-5 درزورت هند   |    |
| ئدير دردر شور رودر كاردو مام وردورد  | 9  |
| 9.1 - مرتدث ورتدر ردو درجو   |    |
| 9.2 څنټونټر زير  |    |
| 9.3 - ئۇرىدۇدە ئادىدۇ ئام ۇرىدولادۇد دىلىد ولايدىدۇد دەندۇدۇد  |    |
| 43   |    |
| سِدْدِ مَدْمُدُمُونَ وْدْوْمْرْ رِدْوْ وْدْرْمْرِدْدُوْ وْرْوْرْدْمُونْ رْبَرْدْوْرْ   | 10 |
| 10.1 הַבַּנָינַ בַּנָּמָלֶבָה בָּלִי בָּנִינַ בַנִּינַ בַּנִינַ בַּנִינָ בַּנָי בַּנִינַ בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנָּיִי בַּנִינָ בַּנָּיִי בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנִינָ בַּנְיִינָ בַּנִינָ בַּנְיִינָ בַּנִינָ בַּנְיִינָ בַּנִינָ בַּנְינָי בַּנְיִינָ בַּנְינָ בַּבְּנָבְינָ בַּבְּינָ בַּבְּבָּבְיבָּבְיבָּבְּבָּבְּבָּבְיבָּבָּבְּבָּבְּבָּבְיבָּבְּבָּבְבָּבְ   |    |
| 45 10-2  |    |
| سِيدِر دُوَدِيُ رُثِر  | 11 |
| 45 دَوَدُعُ زُمُورُ مِرْوَرُدُ مِنْ وَرَوْرُ وَرَوْرُ مِنْ وَرَوْرُ مِنْ وَرَوْرُ وَرَوْرُ مِنْ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرُوْرُ وَرَوْرُ وَرُوْرُ وَرُوْرُ وَرُوْرُ وَرُوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرُوْرُ وَرُوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرِ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرُونُ وَرَوْرُ وَرُونُ وَرَوْرُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُ وَرَوْرُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرَ وَرَوْرِ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ وَرَوْرُورُ ورَوْرُورُ وَالْمِعْرِقُورُ وَرَوْرُورُ وَالْمِرْمُ وَالْمِعْرِقُ وَالْمِعْرِقُورُ وَالْمِعْرِقُورُ وَالْمِعِيْعُ وَالْمِعْرُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمِعْرِقُورُ وَالْمِعْرِقُورُ وَالْمِعْرِقُورُ         |    |
| 11.2 وشي رَحَجْرِ رَبِرُو وَثَرْدِ مِدْرِدُمْمَة   |    |
| 46   |    |
| 47   |    |
| 11.5 درزونزمه  |    |
| بريروش   | 12 |
| - قَرْمَرْدُ<br>عَرْمُرُدُو  | 13 |
|  |    |



# مِلْغَوْدِ رِوْسُرُورُو مُوْوُمُونُدِ مُسْوِيْمُدُ

| فَقَرُ 1 : قَرْبُ عَرْدُو مُدُورُ مُدُورُو دَيرِهُمْ مَدْرُورُودُ وَرَبِيرُ مَرْدُورُ وَرَبِيرُ  |
|--|
| 21   |
| 11 1: مَرْدُو وَمُوْرِمُورُ مُرَدُو وَمُوْرِدُونِ مُرَدُةُ وَمُورِدُونِ مُرْدُو وَمُورِدُونِ المُرْدِ المُرْدُودِ المُرْدِ المُرْدِ المُرْدِ المُرْدِ المُرْدِ الْمُرْدِ المُرْدِ الْمُرْدِ المُرْدِ المُرْدِ المُرْدِ المُرْدِ المُرْدِ المُرْدِ الْمُرْدِ المُرْدِي المُرْدِي المُرادِ الْمُرادِ المُرادِ المُرادِ المُرادِ المُرادِ المُرادِ المُرادِ الم       |
| المناور 2: يوكونور تغير المناسبين ال |
| المناور 3 : مَرْدُرُورَدُ وَدُمَا وَدُورُ وَمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمُورِدُ وَ وَمُعَالِمُ وَمُورِدُ وَ وَمُعَالِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعِلِمُ وَمِعِينِ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُوالِمُ وَمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِمِمُ وَمُعِلِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ ومِنْ مِنْ مُعِلِمُ مِن مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مِنْ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مِنْ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مِن مُعِلِمُ ومِن مِن مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِن مِن مُعِلِمُ مِنْ مُعِمِلِمُ مِنْ مُعِمِلِمُ مِنْ مُعِمِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مِعِمِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِعِمِ |
| زشور 4 : فونو خدى فرود كارود و دو بدر دوورد  |



# مرفي و مرسم ورود مرود مروي ما مودي

| شترو وروشهو والرياد | . شتر پرشتو: " |
|---------------------|----------------|
| serve serves som    |                |

2. مُعْدَمُ مُنْ مِدْدُ / تَادِسَمُونُ مِدْدُمْ مَدِعْتُ تَادِسَمُو مِنْ مُرَ وَيُ وَعُرِيدُهُ مُنْ

3 48: 3 48: 5 48: 6

4 قَوْدُونَ وَمُورُونِهُ وَوَوْدُونِ وَوَوْدُونِ وَوَوْدُونِ وَوَوْدُونِهِ وَوَرُونِهُ وَوَوْدُونِهِ وَوَرُونِهِ وَوَوْدُونِ وَوَوْدُونِ وَوَوْدُونِ وَوَوْدُونِ وَوَوْدُونِ وَوَوْدُونِ وَوَوْدُونِ وَوَوْدُونِ وَوَوْدُونِ وَوَرَدُونِ وَوَرُونِ وَوَرُونِ وَوَرُونِ وَوَرَدُونِ وَوَرَدُونِ وَوَرُونِ وَمِرْدُونِ وَوَرَدُونِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَلِيَالِكُونِ وَالْمُونِ وَلَالِكُونِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَلِيْكُونِ وَالْمُونِ وَلِيْكُونِ وَالْمُونِ وَلِيْكُونِ وَالْمُونِ وَالْمُوالِقُولِ وَلَالِمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَلَالِمُونِ وَالْمُونِ وَلِيْكُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُوالِقُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُوالِقُونِ وَالْمُونِ وَلَالِم

5 مُسْدَدُدُ مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو

6. مَدِ وَدُورَدُ وَرَدُ وَرَدُ وَرَدُ وَرَدُ وَرَدُ وَرَدُو رُسُونِ وَ

7. يُوسِعُ: الْمُعِينُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْ

8. شد. يريد المراجع ال

9. شعرية: دور وترف سند دفيرسير

10. يوث: يُربَعُ وَيُرْعُ سِمْعُ وَيْرُ



دِ پِهُمَهُوْدِ وَهُوْدُهُ هُدُهُوْدُونِ دِ غَوْدُ مَهُمُونِ مُعْدَدِ صَّهُوَدُهُ وِهُرِهُمُونُونَ هُرُورُهُ وَسِوَهُمُهُ مُونِدُهُمُونِ مَنْدُ مَعْمُدُمُهُ طُوْدُهُؤَدُ مِسْالَاتِهِ وَمِعْتُهِ وَوَدُهُوْدُهُ مَرِ وَمِرِعْتُهِ عَدْدُ دِدُونُ سُؤَدُ الْالْعُدُودُ

## 36-35 382he .2

دِ عِمْدَمُوْ دَمِدَمَ دُوْسَمُوْمُوْدٍ:

- ١٠ وُرْدِ عَوْدُ وَبِي مُعْرُدُ رُوَمُهِ مَعْرَفِهُ وَمُعْرِدُ وَمُوَمُونُ مِوْدُومُهُ مُودَمُهُ
- د دُوْرٍ عَدْدَرِ رِهِ دَرِرِدْمْرِ مَعْدُ رِدْعُدُ سِدْرٍ دُوْدُ طِحْدَمُوْرٍ دُ رَمْمُمُوْرِدُو مُدَوْدُوْمُ
   د دُدُونُوْمُ
- بده خومتار دوده دور به به گذشتن دوده به سهر دور به به به دور دور به به به به دور دور دور دور به به به به دور درد نور

- ٠٠ دُوْرٍ عُوْدَهِ مُؤَرِّدُعُوْدُرُرُ رَرُهُمُوْدُرُ دُدُوْتُ هُوَمْدُدُ دَرِدُوْرٍ، وُرِدُسْمٍ رَرُورُوَجُهِ دُدُوْدُ دُرُودُ دُرُودُ دَرُودُ دُرُودُ دُودُ دُودُ دُرُودُ دُرُودُ دُرُدُ دُرُودُ دُودُ دُرُودُ دُرُودُ دُرُودُ دُرُودُ دُرُودُ دُرُودُ دُرُودُ دُودُ دُرُودُ دُرُودُ دُرُودُ دُودُ دُودُ دُرُودُ دُودُ دُو
  - ﴿ وَرُورٍ وَمُورِدِ وَسَادُونُونُ سِدْدٍ وَوَدُونُ رُونُونُ مِرْدُو مُرِمِنَامِ وَمُوْدُونُهُ وَمُرْدُونُهُ

### £ 33.3

### בנייל ב מנשנה הפהלפלתונה שהשיעין

- 10071 300 0
- י שלנו שות בנוכה
- دُورِدُرُد مَدُرُ وِرُدُرُدُ وَرُدُرُدُ وَرُدُرُدُ سِدْدِ رَدُوْ
- سيدر وردود دود در درد دردور ورود و دود درو
  - ځا ښتاندور ورودرود
  - خدر فرقب شرقرردور مدرو منام ودعرورد
- سِيدُر عَجْمُومُونُ وَوَوَجْمُرْ رِجْوَةُ رُوجُومُرِمُودُو وَجُودُوهُمُومُ رَمُوهُوهُمُ
  - 23925 5036263 Am .

دِ پِدُمَهُوَدِ غَوْدَهِ سِدْمٍ دِرْدَهُ وُرَدَّهُ وَهِاللَّهُ فِي عَلَى سَمْعَارُهُ وَدُوَهُمُوْدُ رِسِرَوْدُورُوَدُو، دَوْهُمُ دُهْسِهُ لِلْهُورُودُ صَّامِرُهُ تَعْهِدُهُ وَدُوهُورُووُ وَسَدْعَهُ وَهِدَرُورُونِ رَهُوْ رَهُو رِهُودُ صَدْمُو تَعْهِدُهُ مَدْدُورُورُ رَهُوْ رَهُوْ رِهُورُ صَرْدُو دُوهُمَهُ عَنَدُعُ وَبِرْدِرِنِهُ وُرَدُورُورُودُورُ

دُوْرٍ عَوْدَهِ هُوِمَارَوَ مَوْمَدُعْرِوَهِ وَرَهُ مِوْمِدُ، وِ عَوْدَهِ طَلَمَعُوْدُ سِودْمٍ دُوْمُمَدُ سَعْطُورُوهُ عَلَوْدُ سَعْطُورُهِ مَدْدُ طَمْعَدُهِ، عَدْمِ دُومُمَعُودَهِ طَلَمْعَنْ دُومُمُودُ طَلَادَهِ رِفْظٌ بِرِهْرِقِعَم، دَهاعُ طُورَدُ عِدُهُ دَرِ دُوَّةٌ طَادَدُنْ طَلَمْعُنْ دُورِدُو دُومُدُ طَمْعَهُ وُرَدَنْ شَوْدِهُ وَدُولُوا رَدَدُرُمُوا عَدُرَهُ وَمُومُونَهُ طَلَمُونَ لَذَ طَلَمَعُنْهِ، دُومُمُعُنْدُنْ مَدَمِعْهُمْ عَرْمِدُ طَهْمَادُهِ الْمُعْمَدُ الْمُعْلَمُ الْمُعْد مُولُولًا وَمِ مَعَادُونَ وَمِعْمُونَهُ وَمِدْ الْمُعْمَادُورِ مُرْدَانُهُ وَرَدُولُونُ وَدُولُولُونَ

غۇدەپ ئالمىغاند ئىلدۇپ ئۇنىڭ ئۆز ئىلدۇپ ئالدۇزىڭ ئۆلۈنىڭ ئىلىنىڭى، ئۆر بىلەدى ئالىردىگ بېسىدىد بىر ئەيمئادەپ ئىلىمىم ئۇئىز ئىلادېرىگەپ، ئىنىڭىنىڭۇتېپۇ ئىزىم ئىلايىڭ ئىل قېردى ئالىلىنىڭدى ئىلىنىڭلىپ ئىرىماڭ غۇدۇد ئىلىسىڭ ئائانىڭ ئەزىڭىلىرىيەلىڭ

 $- \frac{1}{2} \int_{0}^{1} \int_{0}^{1$ 

٠٠ گُرُورِ جَوَرُ عَبِ جِ جِمْمَهُوَدِ وُرَوَعُهُوهُمْ مَمْهُمُومُ وَدِوْهُ مِسْوَدُهُوهُو 33 دَرَدُووْدُ مَوُووُ مِرْمُهُمَادُ جِ بِرِهُودُهِ (جَهُووُ 1) دَرَدُورَهُولِدُوْ.

#### 2002 300 .4

دُرْرٍ عَرْ رِحْدُوْدَوْوُوْ كَارِحْدَهُ مِنْ وَرِعَامُمُدُهُ دَرِعَدُوا عَرُوْ وَسَدَعَهُمُدُ وَرِوَمَ وَمُو خُرِوْرِوَرٍ 4 حَدُدُوْ وَهُمُوْمَوَرُوا دُرُوْرُ كَارِمُهُمْ مِنْ وَرِحْهُمُمُوا خَرُوْدُ وَرُوْرٍ سَامِلْهِ مُكَا وَرِدِهُمَا مَا وِحْ دُمُنَ عَوْمًا، وَرُوْرُومُو رَمِوْرُ وَرِعُوْ وَرُودُو رِحْدُودُ عِنْ رِحْدُودُ وِرِعْد وَمُعْمُمُونُ وَمُعْمُونُ وَمِرْدُوْ وَدُرُودُو وَرُدُونُ وَرُودُونُو وَرُودُونُ

دُرْرِ عَنْوَدِ 10 مُرِغُ رُمِدِدْ مَعْدَمُومَدُ دُهُ مَعْدُورَدِهُ 58 وِرُعُودُ غَدَدِدُ مُدِهُ مُرِغُورِهَوْ مَعْرِدُ عَمَوْمُ وَدِيرِهُمْدِ عَمْدُورُنْهُمُدُهُ غُورَ 57 مَعْرَفُرُ وِ مُرِغْدُو مِومَنَدُ عَلَى رِمُودُور دِسْمَعْدَرَمَنْهُمْرِهُ وَمُعْمَعُهُ وِجِرَدِهُ دَهُوْدُهُمْرُدِ وِهُرِدُهُمْ خُوهُوْدُهُ وُرَدَنْهُ وَرَوْدُو

4.1 وَرُدِ وَرُور دُور مُرَد مَدُور وَرَوْمُ وَرِيرُمُ وَمِرْدُ مِرْسُورُ مَرْدُو مَرْسِورُ

| 154 332 | 254   |      | خارسية شنوز          |  | inie |
|---------|-------|------|----------------------|--|------|
|         | ربرند | 2324 |                      |  |      |
| 57      | 0     | 57   | مُرِيعُ 1            |  |      |
| 64      | 64    | 0    | 2 800                |  |      |
| 111     | 111   | 0    | شریح 3               |  |      |
| 95      | 95    | 0    | مُرِيغ 4<br>مُريغ 4  |  |      |
| 87      | 87    | 0    | شرق 5                |  |      |
| 90      | 90    | 0    | 6 ênh                |  |      |
| 25      | 25    | 0    | شرخ 7                |  |      |
| 35      | 35    | 0    | 8 800                |  |      |
| 325     | 325   | 0    | شرغ و                |  |      |
| 4       | 4     | 0    | عارستو ووفاه ستر شرف |  |      |
| 893     |       | . تن |                      |  |      |

لَمُوَدُوا : وَرُو عُمُونِهِ لِنَاوُ مُعْرِيلُونُونُونُرُ وَبِيرِمُنْكِ عَمْرُونُهُو مُرْسِقً



### 5. عَرْدُ سِمْدِ دِفْرُدُمُ

ئىزۇش دىسىدى ئىلىدى ئىلىسى ئىلىدى ئەلىرى ئىلىدى ئىلىدى ئىلى دۇرىدى ئىلىلى ئالىلى ئالىلى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئ ئىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىد

Helectrotherapy: the use of electric currents passed through the body to stimulate nerves and muscles, chiefly in the treatment of various forms of paralysis

Exercise Therapy: is a specific, intensive plan of physical activities designed to restore normal musculoskeletal functioning or reduce pain due to an injury or a disease process such as traumatic brain injury or multiple sclerosis

### 5.1 Eg 3 6.45

### 5.1.1 مَوِدِرْثُرُ مَثَرُ تُتَعَيْمِدُدُ

دُرْرٍ غَوْدَهِ مِنَّا دَهِرِمُمْهِ عَمْرُ وِرَمْ عَرِوْدُمْ لَا وِرَمْ عَوْدَهُ 2 كَاغَرِمْهُ الْهِوَمُورُومُومُوهُ لَا وَمُومُ الْمُومُومُ وَمُومُ الْمُومُومُ اللّهِ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ



ئىرۇ 8 ئىر ئىرونىڭ ئۇدى قىردىدۇرۇ ئۇپرىر ئۇئىر، ئەۋىرىكى ئائەر ئىئىرىنىد ئىدىنىدۇر ئىرىئىدۇر ئۇرۇنىدۇر ئەتىرا ئىلى ئىلانىد ئىلانىدى ئىدۇر ئىرىنى ئەزىنىدوردۇرۇرى د ئۇپرۇ ئەد ئىزۇسىنىڭ ئەزىئىدوردۇنى ئىزۇس ئىرونىڭ ئۆزى دېنۇ ئىلاغىدا ئىلادر ئاردىدۇردۇ ئۇبرىمى كەد ئىدىد ئىزىدىد ئىر ئىزىدۇرنى ئىزىدۇرنى ئىزىدۇردۇر رىمۇر ئىزى ئىدۇش ئىدىد د ئۇپرىد ئىلىنىڭ ئەزىنىدوردۇردۇردۇر

#### \$ 5.1.2

#### 5.1.3 مَرْدُ رُدُورُ رُجُورُ عُجَارِ

ئرفرد زفرهٔ برخود هنه ها ها برخد خدهده هدهده و نود زفره برخود هدوده المدهود الدوه المدهد المدهد المدهد المدهد ا خد و ها برخد فرماه به مزود و هوهمه المدهد ترویده از المدهد المدهد برخود ب



22 162 2016214 232223 122 1 2024

### 16 3 15 Sec 5.1.4

2018 وَمَرْ مَرَمُنْدُ رُرِدُنْدُ دُوْرٍ جَوْدَهِ رِجِنْدُمْرَرُوْ دِفْوَتْهُ وَمُرْوَمُونُونَهِ وَمُرْدَهُ وَمُودَهِ وَخُودَهِ رِجِنْدُمْرَدِسْجَانُهِ، رِجِنْدُمْرُهُ مِرْدَدُ دُمْتَ تَجَهِدُهُ رُمِنَادُ جَوْ رِنْدُوْدَهِ رِسْتَادْرَمُنَامُهُمِوْ وَمُرْمَنَامُ رِزْدِدُ وَدُوْدُهُمْرَمْدِ تَدِسَمُمْ خُوِهُوْدُمْ وُرَدَانَامْرُورَهِوْدُوْ

Medical Trolley is a set of trays/drawers/shelves on wheels used in hospitals for transportation and dispensing of emergency medication/equipment

دِ تَخَهِرَهِ شَهِمَنَّهِ دَّخَنَّهِ مُمُوَّهُمْ مُدُخَنَّهِ بِعِيَّمْنَ بِرِيْدُدُ دُدُبَ وَسِيرُدُ رُمِنَادُهِ، وَمُوْدُوَدُوُوُوُ (شَاهِ عُنَّ) مَمُوْمَنَّهِ، مِرْوُرُووُمْدُ (نَامَهِمَّ) مَوْمَنَدُ خَرَدٍ دُوَّنَاوَتُهِ، دُوَّهُمْ رِدُوْعُ دُنْ سَمِسَهِ خُرْدُوْ دِوْدُمْ وَمُرْتَادُرُ خَوْوَدٍ وَسَدْنَاهُوْدُ بِعِيْمُورُهِ وَدُوْوُمُورُورُوْدُوْ.



167 7422 12 2 2 2 2 4 4 4

5.1.5

دُونَةُ سَمْعَ مُونَهُ مَرُدُهُ وَسَدْنَا مُونَدُورُ وَدَسَاتُورُهُ لَا عَهْرُونِ وَبِرِهُمْ عَدْدُ وِدَمْرُهُ وَلَا وَمِنْ الْمُونِدُونُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ







LEB SUSSBELDS SERVER : 3 JURA

### 5.1.6 سيد عشرة مُعْدَد مُعَادِيد مُعَادِيدُ وَيَعَدُ

دُرْرِ وَوْدَهِ سِهْرِهَوَمُهِ دُولِدُ وَهِيمَهُ مُومَ عَمْدُ وِرَنْ مَنَارَهِ لَمَمْوَلَّ مُومَدُ وَرُوهِ وَهُومُوهُومُو مُعَارِهُ فَهُوْ وَبِا كَمْنَا عَمْدُ مُرْمُومُوهُ وِرَوْ مُومُومُونَ مُنَارِبِ لَمَنْ رَسِسْهِ مُهِ فَهُومُون مُهِ فَي مَهِ فَهِ فَي أَدْ تُولِدُ رُسُومُونُ وَرُدَهِ مَنَادُ وَوَقَارُهُو رَمْوَهُ وَمُورَدُو وَوَقَالُونُ وُرَدُونُورُونُولُونُ

## 5.1.7 سودر دورمد

ئردر در المردود المردود المردود المردود والمردود والمردود المردود الم

ئۆدەر ئائەئاڭ سائىلۇرى دۇسىل زۇنۇلىڭ دۇ ئۇنۇزدۇڭ ئائى ئۇن ئۇنى ئۇنىڭ ئۇلىنىدۇر، ئۆلەر ئائەئاڭ سەئەر ئەئۇنىڭ سائىلۇرگائىدۇ سائىئىدۇر چۆلەئ ئائىلانىدۇلىرى بەرئاڭىرا ئابولاد سائىلۇرى ئەندىندۇر، سائىلۇرگ ئىزىمۇن ئەئىرىڭ سائىلە ئۇنۇپ سائەئۇر سىئىر دىمئىنىدۇر ئۇلانۇرلاد زىرنىڭ بورۇرۇ دەنۇدىمى ئەزىنىلورۇرۇنىدۇ.

دُوْرٍ غَوْدَرٍ دَرِدْدَهُ دَرُوْرَ خَرَدُدُهُمْ خَرِمَدُ دُوْرِدُ خَرَدُ دُمَرُوْمُهُوَرُ سِهُو رَدُوُوَمُهُ المَرَدُودُ دُوْرُهُمُهُ خَرِ دِرْدَهُرِمُودُ سَاءَهُ فَرِمَادُ عَرِدَرِ وَسَادَمُهُمْ دُوَدُعَ زَمْمُ الْ دُودُعَ زَمْرُ الْهِوَ دُوَاهُوْمُوْرِهِ وَرِدُهُرِمُودُ سِادُنَهُ مِهُدُ خَرَدُمَوْدُ دُرَدُودُ زُمْرَسَمُ الْآنَاءُ الْدِستَ وُرَدَنُهُ فَرِورُودُونُ







تشرير 4 : دونتر شتهرتني فتتناثر نند سيدر تتبيت

المراد المراد المراد المراد و المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المراد المرد ال

در رو المراز و المراز و المرزو المردو المردون و و وراد و وراد و و المرزو و المرز

A serbrillator is a machine that gives your heart an electric shock to re-establish a normal heart rhythm. It's used in cardiac arrest.

In a not otracheal tube is a flexible plastic tube that is placed through the mouth into the trachea (windpipe) to help a patient

by bag is a hand-held device commonly used to provide positive pressure ventilation to patients who are not breathing breathing adequately.

دَهُوَدُهُمْ وَرَدَهُمُ وَرِوْمُوْدُ دِوْمُ سِمْدٍ مُوَهُمُدُ (5)مِ دَسِمَدٍ) گَارُمُوَهُوْدٍ سَرِسَادُيْدُ بِمَرْوَسُمُوَمَانُ خَرْمُهُوْدٍ دِوْمُ مَدُقًا مُوْهُمُدُ رَوْهُوَدُ وَدُورِ وَرُمُونُودُو كَدِسَارُهُ وَرُدُودُودُ

### 5.1.8 مِرْمِ وَسَمَدْنَا مُرْدُرُ تَاعَمِ

ئەدە ئەرىدى دەرىدى ئەرىدى ئ ئەرىدى ئەرىدى



### 5.3 سيدر دور دوروند ودورد دورد دور

سِيْهِ تَهْرُودُوْ نَدْدِ دُوَمْمَانَدِ دُونْدُرُودُو وَبِ وَقَهِرْمَادِ دُسْتُومَادُ دُاوَوُونِ وَقَهِرْمَادِ الْمُنْ الْمَانَةُ سَرِمِنْ وَقَيْمٍ جِوْدُ وَرُّ كَارُودُ لَا رَبْعُهُا بِدُسْتُلْوَرُونَاوَدُ مُوَوْنَ، وِ وَقَهِرْمُانِ الْسَافِعَةُ وَمِنْوَالْمُورَمِلُونَوْدُ عَلَى بِعَادُونَ إِنْ الْمُعْمَادُ وَرَبْعُونَوْ وَرَبْعُونَ فَيَوْدُو وُرَانَالْمُورَمِوْنَا فَيْ وَرَبْعُونَاوَدُ عَلَى بِعَادُونَ إِنْ الْمُعْمَادُ وَرَبْعُونَا فِي وَرَبْدُ وَدُودُونِ

دِمَامِ رُسَاوْرَهِ شَوِمَدَوْسَ، مَاوَوْوَرِرَهِ وَوْدِرَهُ دَسُوْمَا مَدُوْمَهُ مُدُوْمَهُ مُوْدَهُ مُوْدَهُ دَرِمُوَمَرُ مَثْرُورُ مَدُمُدُ خِرِرَهِ وَرَبْ عَوْدَرِ رَمِنَا مُعَوْدُ مُنَوَّدُ دُوَدَةٍ وَوَجَارُهُو وَوَدَرِ دُسِلُومَنَا مُنْوَوْدُهِ، قَدْسَ رِمَوَوْمَادُ مَدْرَهِ وَنِدَ عَنْ رِحْدُودَهِ مِسْامُورَ رَبْعُورُهُ وَوَدَ يَرْدِوْ وَدُوْدُورُ وَرُدُودُورُ

المؤود وقاف سوده المدود والمفردو وبهد من المدر وزير دري المزود المؤودي المواد الموادو المرادو المرادو المردود المدرود المردود المردود

#### 353555 5.4

- 3 كافي قدة مازه ستمترفو سامروسات بركافي بالمستشائرة 1 مَارَدُ وَوَوَدُ وَهُوَدِهِ سِوْدٍ مَادَوْدُو وَفِيْكُمْ وَبِهِرِهُوْدُو مِنْ مُنْ وَرُدُ دُمَارُمِنَادُ عَامِدُهُوَدُ مَادِمِوْدُو وَمُوَامِدُو وَمُوَامِدُونُ وَالْمَ وَبِوْدُونُونُو

- 4. گائردوش ئائردا سترو ستروست برکا باشادی 6 دسا فروزه المیزور، ۱. گائر با و و م نائردون سائد شودهد شاه ناوره دارد و با شاه شده در شاه شاه نوره شاه درد و درد

### 6. צות מימים למשים שהו נגם

### 6.1 عَرْدُ وَمُرْدُونُونُ وَمُرْدُونُونُ سِمْدٍ وَمُرْدُ

 $\frac{1}{2}$   $\frac{1$ 

٢٥١٤ (١٩١٤ ( المرزدة المزارمة والزراطة: ويونونها سوطة بسطة بالمناف المالاتي ووالمالاتية المرادة ويحدود المدادة وم البرد البر شائمة وإنهام، اللاست شوطاء البالم 100 فرادة المالات المن المدادة عاود وسندناها 100 بالمنافزوة وزها وسطة المالونون المزادة والمنافة

A first aid kit is a small box containing items such as bandages, plasters, and antiseptic wipes for use in giving help to a sect of injured person until full medical treatment is available.

## 6.3 دُعْمَدَهُمْ وَمُعْمَدُ سِيدُ وَمُوْ مِومِمْدُ

شهرية در برو عدد عدر ودر دردود هدود در در دردود دردود در المورد ورا المورد در المورد دردود المورد دردود المورد المورد وردود المورد وردود المورد وردود المورد وردود المورد وردود المورد وردود ور

رَوْوْ عَوِمَانِ "عَنْهِ مِدُ"، "وَمِيْنَ"، "وَهُوَوْ" بَدِ "وَرْسَدِهْ" وْ سَاعَهُمْ خُرُّ عَوِمَانَامُوْوَدِ، وِوَرُ عَوِمَانُمْ مَدُنَّهُ مِرْوُوْوُوْمُمْ مُوِمِّرُ وِبِرَوْوْمَنَ وَوَلَامُمْ وْوَرُجْ وُمِرْدٍ، وَمِرِمْ مَرِ عَدْوْ وِرْدُ تَوْمُ مِنْامُودَنِ وَمَرْدُ وَمِدُوْنَاوْدُ نَاوْوَدٍ تَادِسَامُمْ وَرُوَانِمُوْوْ.

| 332 332 | مند محادد ورد خود شور |      | स्तरम् मृतमस्य सः सारा       |
|---------|-----------------------|------|------------------------------|
|         | يوند                  | 2324 |                              |
| 23      | 22                    | 1    | دود زيد ١٩٤٤م                |
| 8       | 7                     | 1    | 22622 1224 124               |
| 28      | 24                    | 4    | ##### 125 <sub>7</sub> 4 135 |
| 65      | 65                    | 0    | 12611 122                    |
| 11      | 11                    | 0    | 22602 2458, 23662            |
| 67      | 65                    | 2    | 22622 120                    |
| 51      | 49                    | 2    | 22627 133                    |
| 17      | 16                    | 1    | 2260% 122                    |
| 17      | 17                    | 0    | 2262° 623 25322              |
| 83      | 83                    | 0    | عروب خود ١٥٤٤ عنود           |
| 4       | 0                     | 4    | 22627 L25 122122             |
| 374     | 359                   | 15   | 532                          |





كېرېرڅېر شېرو ورند دهن ۱۳۵۵ ټاکا فرهن ده دور کېږي دو.دهو پرورو دهن دولونواوې هې.۵ تشېرې توروش چېرو د دولونونې کېږي دو.دهنوونو کورو هاړ تا تنشېرې د دولود دودې وود زنده د پرورو د دولودونو ورزونودود

قَيْمَةُ مَنْهَ ثَهُ 14/2013 (مِوْرِثَدُةُ وَوْمَرُهُ وَرُكُووْ قَيْمَ) وْ 70 وَمَرَ وُهُوَيْدٍ 110 وَمَرَ وُهُووَهِ الْهُمُونِّ وَمُورَوْمِهُ وَوَهُ وَمُوْمُونُونُ وَمُومُونُونُ مِرْكُونُونُ وَرُهُمَدُ وَوْمُ اللَّهُ وَيُورُ تَاجِعَمُ مَرَدُونُ مُنْفِرُهُ وَفُومُونُونُ وَفُرِهُونُونُ لَا وَسِهِدُهُوْ وَهِ مُرِهْرِهِ وَهُونُ وَسِهِدَاءُ اللَّهِ وَمُورُونُونُ اللَّهِ مِنْهُونُونُ وَهُو اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّ

المستمرة المستمرة المراد (مرفر المستان المرفرة المستمرة المستمرة المرفرة المستمرة المرفرة الم

المراحة المرا

### 6.4 مَامِدُ وَوَدُوْ وَدُمْ وَرُدُومُونَا وَرُونُونِ مِعْدِ وَرُوْ

دَبِرْدَبُودُ وَبِهِرَدُونِ فَرَدُونُونِ مَرْدُونُونُونُ وَبِهِدُونُ بِهُونُونُ وَمُونُونِ الْمِدُونُ وَمُونُو غَبِرَبِهُ وَبِهِرَدُونُونُ وَمُرْدُ وَمُرْدُونُونُ وَرَدُونُونُونُ وَرَدُونُونُونُ وَرَدَ مَرِغُبِرِهُ وَبِهِ مِوْنَوَدُ وَوَدُعُونُونُونُ وَمُرْدُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُونُ وَرَدُونُونُونُونُ وَرَدَ مَرِغُبِرِهُ وَبِهِدُ عَلَيْهِ وَمِوالِمُ اللهِ وَرَدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُونُونُ وَرَدُونُ وَرَدُونُ وَرَدُونُ وَرَدُونُ وَرَدُونُ وَرَدُونُونُ وَرَدُونُونُ وَرَدُونُ وَرَدُونُ وَرَدُونُ وَرَدُونُ وَرَدُونُ وَرَدُونُ وَرُدُونُ وَرَدُونُ وَرَدُونُ وَرَدُونُ وَرَدُونُ وَرُدُونُ وَرُدُونُ وَرُدُونُ وَرَدُونُ وَرُدُونُ وَرُدُونُ وَرُدُونُ وَرُدُونُ وَرُدُونُ وَرُدُونُ وَرُدُونُ وَرُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَالْرُونُ وَرُونُ وَالْرُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلِي وَالْمُونُ وَلُونُونُ وَلَا الْمُونُونُ وَلُونُونُ وَلِونُونُ وَلِونُونُ وَلِمُونُونُونُ وَلِونُونُ وَلِونُونُ وَلِونُونُ وَلِونُونُ وَلِي وَلِونُونُ وَلِونُونُ وَلِونُونُ وَلِونُونُ وَلِونُونُونُ وَلِي وَلِمُونُونُ وَلَونُونُونُ وَلَونُونُونُ وَلَونُونُونُ وَلَونُ وَلَونُونُونُونُ وَلِونُونُونُونُونُونُ وَلَونُونُونُ وَلِونُونُونُ وَلَونُونُونُونُونُ وَلَونُونُونُ وَلَونُونُ وَلَونُونُونُ وَلَولُونُونُونُونُونُونُونُونُونُونُونُ وَلُونُونُونُ وَلُونُونُونُ وَلُونُونُونُ وَلُونُونُ وَلُونُونُونُونُونُ وَلُونُونُ وَلَ

قهْدَوْمْ شَهْدُهِ شِرِ مُدْمُ وِرْمُ شَرْدُمْ رِسَاهُمْدَتِ طَرْدُجُونِ، وِرَمُ طَدُمُدُجُ رِرَبُو وِرَدُ سَرُسَامِرَةُمْدُ عَوِنَادِهُ، مِمْدُمُ سَرِمُدُمَادُ رُدَرُدِمُرْنَادُدُمَادُورُ وَحَدَيْدُ وُرُدُونَادُودُ.

> المَّرِّةُ مَمَّعَةُ 13/2013 (مُمَّعِ جَمَّهُ الْمَثْمِ) لَا مَمَّ وَمُثَرُ (مَرُسَمِ مَهِدُ) وَ (م) فَى 3 مَهِ مُرْثُ مُمُوْثُ وِرَعَمَٰهُ مِمْسَمِ مُمُوْثُ وَهُوَوَمُمْ مُرِهِوَمُوْمَرُ مُرْثُ مُمُوْثُ وِرَهُ مُرْدُمُهُمُوْمَرُهُ مَنْ مُرْدَهِ مُرْدُهُ وِهِ مَرْسَمْ مَهِدُو الْمُوْدِ مُؤَوِّدُ مَوْدُو الْمُوْدِ مَمُوْتُورُهُوْدُوْ

و غارده مروسي مومند زدد دود درد درد وودده والدرد المراه وده درد المود المود المود المود المود المود المراه الما المراه ا

ستهریدهٔ پرسهٔ در های روز درد زودد بروشی میرون کرد کردهد دیردهد و بردهد به درد در دردهد د به فرد کردهدردون در به به در دردد در براز در در سیاست برد برد دردند تا در سهد دردودد وزود در درددد

المَّنْ مَنْهُ 14/2013 (مِوْمِدُةُ وَوْمَنْدِ وَكُوْدُ الْمَنْدُ) وَ 68 وَدُوْرُ (المُّسْوَدُوْرُ) وَدِ النَّرُو وَوْدُوَدِوْتُ وَدِيرِهُمَرُ مِدْرٍ وَدُوْ مِنْوَرُونَانِ لَا وَوَدُوْ المُعْمِودُ مِنْهُوَمُورُ وَدِينَوْ الرِسَانِوْرُونِ سَدِنَاعُ بِنَّ الرِسَانِيْ مِعْدُونِدُوْ. وِالْمُورُ

Psycriptic disorders are severe mental disorders that cause abnormal thinking and perceptions. People with psychoses lose with reality. Two of the main symptoms are delusions and hallucinations. People with bipolar disorder may also have psychotic symptoms.

چە دەرىخە ئارسىنىدىنى ئىشۇد دەرىمۇ ئىنىدىسىنىڭ ئەئۇنىڭ ئىنىرىدە ئۇيمۇ رەزىدۇ د ئۇرىدىنى دىسىنىدىنىڭ دىلىنىڭ ئائىۋىلىنىڭ ئائىلىقلازىدۇدۇ.

دٍ دُوهُ مُدُمَّهُ الْمَحْدُ الْمُومِمَّةُ الْمُومُ الْمُحَدِّ الْمُؤْمِمِيْنَ الْمُلَّالِمِيْنَ الْمُلِمُّ ال الرَّمُومُونَ الْمُحَدِّ الْمُعَدِّ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْدُونِيِّ الْمُحْدُونِ الْمُحْدُونِ الْمُحْدُ الرَّمُومُونَ الْمُحَدِّ الْمِهِمِدُهُ الْمُومَ الْمُحْدُونِ الْمُحْدُونِ الْمُحْدُونِ الْمُحْدُونِ الْمُحْدُو الرَّمُونُ الْمُعْدُونِ الْمُحْدُونِ الْمُعْمُ الْمُحْدُونِ الْمُحْدُونِ الْمُحْدُونِ الْمُعْمُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونِ الْمُعْمُ الْمُعْمُونِ الْمُحْدُونِ الْمُعْمُ الْمُعْمُونِ الْمُعْمُونِ الْمُعْمُونِ الْمُعْمُونِ الْمُعْمُعُونِ الْمُعْمُونِ الْمُعْمُونِ الْمُعْمُونِ الْمُعْمُونِ الْمُعْمُ

المَّرِّةُ مَرَّهُ وَ 14/2013 (مِرْوَرِمُدُوَّةُ عَوْمَمُّهِ وَرُكُوْدُ الْكُرِّمُ) وُ 69 الْاَدُّرُ (فَاءِ مَا اللهِ اللهُ عِرْدُ) وَ (مر) دَهِ عَرَادُ وَطَوَّ الْعَرْفُ وَهِ مِرْدُدُوْ سَوْوَمِ وِمُرْمِ مَا الْمُوْوَرُوعَ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُومِّدِ مَرْوَسُهِ الْمُومُ الْمِوْدُالُورُ الْسَلْسَاوَمُوعُ مِرْكُوالُهُ الْمُودَالُو اللهُ ال

مَدَوْدَهِ وَرَدُمْهِ وَمْ يَدَوْدُوْدُو سَنِ مِدْ نَسَادَدُوهِ دُمُو رَدْ دِمُوسُا(رَ مُرْسَهُ دَمُلُكُ الرَّسُالُ الرَّهُ عَدْرُو (ر) دَبِ وَبِهِمْ لَا فِسُوْمِ مَنِ مَرْسُمِ مُرْدُدُوْنَهُ الْوَدُهُ فِي مُمْدُدُ سِلْهِ مَمْنَدُ الْهِمَ الْمُودُ وَمُنَا الرِسَادُدُو ومُرْدُدُنَا مُن مُوا مَنِ وَبِهِمْمُوا سِلْهِ مُرْمُونَا الرَّهُ وَيُومُرُهُ وَلَا اللهِ اللهُ وَيَهِمُمُوا وَلَا اللهِ اللهُ وَيُومُونُوا وَبِهِمُ مُوا وَلَا اللهِ وَاللهِ اللهُ وَرَدُ اللهِ وَرَدُ اللهُ وَرَدُ اللهُ وَرَدُ اللهُ وَرَدُو اللهُ اللهُ وَرَدُو اللهُ اللهُ وَرَدُ اللهُ وَرَدُ اللهُ وَرَدُ اللهُ وَرَدُوا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَرَدُوا اللهُ اللهُ وَرَدُ اللهُ وَرَدُ اللهُ وَرَدُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

نَ فُونَهِ مَسْمُونَا ثَرَهِمِهِ مَرْسَمِ مَوَمَنَا وَمُوَ كَرَوْشَدُ وَهِمِرْشِهِ مَسْمُ وِرُشِهُ وَمُرَ مُونَوْشَهُ وَقُومِهُ مَوْمَ مُومَ مُسَافِقُ مُسْمَوْدُ وَ تَوْسَسُونُ مِسْرُو مِهِ مِسْمَةُ وَمُومَ وَاللّهِ وَمُنْ وَسُمُ مُنْ كُورُونُ مَنْ مَنْ سَسَرَوْ سَمِوسَهُ مَنْ وَمُورُورُهُ سِعِ مَسْمَةُ -168-168-168 (30 مُشَافِقَةُ -168-17/167/2018/507 مَم 2018) مَم مُرْدَوْدُ وَ مُرْدَدُودُ وَ مُرْدَوْدُ وَ مُرْدَوْدُ وَ مُرْدَدُودُ وَ مُرْدَدُ وَ مُرْدَدُ وَ وَمُرْدَدُودُ وَ مُرْدَدُودُ وَ مُرْدَدُودُ وَ مُرْدَدُودُ وَ مُرْدَدُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُودُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْ

دِرَرُ مَرِمَانٍ وَبِالْمِنَاءُ مُدُودُ مُومَ مُدَاعَمْرِنَاوُدُ رِمُودُ مُدَمَّجُ دِمُومَدُ رِمُودُمُومُ وَلَ دَبِرُدَهُمُ مُحَمَّرُهُ مَرِمَانَامُورِهِمُ لَا مَحْمُدُمُنَاءُ وَوَدَّهُ وَهُمُّذِهِ وَبِهِمْ مَنِ مَحْمُ وِنَهُ الْوَحْمُرِ الْمُورَدِهُمُودُودُ سَعَمْهُ وِرَدُ مَنِ مُمُنَدُونَاءُ وَبِهِمْهُ عَمْرُ دِنْهُ مَرُسْمِيْتُهُمْ عَرِنَهِ بِمُمَنَّ مَهِمُنَادُ زَنْرُورُمُودُودُانُونَهِ تَوِسَعَمْهُ وَرَدَانَهُووْ.



Compart of the content of the c

ئزدۇپ، زېرۇنى خوخۇدى دېرېرى ئىرى دۇرى دېدې ئىدئادۇدى ويىدى خۇد دېرى دېرى ئىدۇنىڭ ويىدى دۇرىمىنى ئۇد پرزېردىد ئەزدىدۇد

المراجعة ال



خوش گردشد بهر گردشد در المارد الم المارد ا

المائد المرافقة المر

المُرَّدُ مَرَّهُ مُرَّدُهُ 14/2013 (مِوْرِمُدُةٌ وْ وَوْمَدُهِ الْمُرُودُ الْمَرْدُ) في 32 وَمَدَ الْهُرُّدُ (وسِالْمُومَنِي الْمُرْمَدُ) في (م) وَهِ الْمُدُفْ الْوَوْمَةُ وَلَا الْمُومَ وَهِيمَ مُوَدَّدُ مِنْ الْمُرْمَ بِالْوَرْ الْمُومَ مَنِهُ وْهِ مَدَوْدُ بِالْمُورِمِرَةُ الْرِسَامَةُ الْمُومَ وْوَلَدُهُ وَمُ الْمُرْمِدُ وَ الْمُودُودُ الْمُولِدُ لَذَا فِي الْمُؤْمِرُ وَلَوْمَةُ وَمُومَا وَرَاهُ وَلَوْدُودُ

دٍ دْسِهُمْ الْمَادُ مَمْرِ لَوْاَمَدُوْمُوْ وَسِهِمُوْ مُمْدِهُ وَدِيهِمُ الْمَادُرِ وَالْمَوْوُوهُ الْمَاهُ ب المَاهُ وَسِهِ الْمَادُرِ وَالْمَرْوُوْدُهُ الْمُعْمَ وَسِهِمُادُ الْمُعْمَدُمُ فَاقْ اللّهُ الْمَادِيمُ الْمَادُرِ وَالْمُرْوُوْدُهُ اللّهُ وَالْمُرْدُمُوْمُ وَقُوْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل دِنْهُوْ رَمُوْهُ رِجِرَدِهُ وَدُوْدُهُمْ رُرَدُونُورُورُونُونُو دِنْدِهُونُ دَدُ وَبِي رَبُدُ وَدِيدُونُ الله مَنِهُمُ وَلَالْهُمُ مُدُونُ وَرَبُونُ الرِسَامُةُ مُونَا سِلْهِ وَوَدُورُونُ بَدِينِهِ مُرَدُلُونُ وِلَهُو مُعْمُدُهُ اللّهُ مِنْهُونُهُمْ وَرَبُولُهُ الرِسَامُةُ الرِسَامُونُ الْهُلِادِ الْدُونُ بِهُولُدُ الْمُعْمُون وِرَمُعُهُ اللّهُ وَوَرِدُو وَدُورُونُهُ وَرَدُانُورُورُولُولُونُ

شوش الشهرة المراهدة والمرهدة المرهدة والمراهدة والمراهدة والمردود والمردود المردود والمردود والمردود

دَوْرِهُ مِرْوَهُ وَرُورُ وَرِدِهُمْنِ مُوْدُ مُرْدَوْدُورُ رَدْهُورُ وَهُورُورُ وَوَرُورُ وَهُورُ وَرُورُ وَرُورُورُ وَرُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُولُورُ وَالْمُورُولُونُورُ وَالْمُورُولُونُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُولُ

> وُسِّرُ مَرْمَهُ 13/2013 (شَرَّعِ جَهَمَر وُسِّرَدُ) وُ 15مَرُ وُسُرُّ (مَرُوْمُ) وُمِيْرَ مِرْسُمِ مَوَوْ عَمَامَدُوْرُ وَمُرَاوُ (ر) "مَرُوْمُنَا مُعِيِّرْسُمِ مِرْسُمِ مَوَوْ" عَوَرْ

search (someone) for concealed items, typically drugs or weapons, in a way that involves the removal of all their clothes

المرابطة في و المحدد 13 من المعادل المن المعادل المن المعادل المعادل



المناهدة المنافقة المنافذة المنتفلة المنافذة ال

كَانِي وَاللَّهُ مَا مُرَادَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَا الْمُوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



- الافروف المفاحدة المروات بركا بالمحادة فرودة فرددة المرودة المفرد المفرد المفاود المفاودة المفاودة المفردة المفر
- و. كائروف المشاعد المدون المروث المراح المدارة المدارة المشاعد المدارة المشاعد المدارة المساعدة المدارة المشاعد المراحة المراحة المدارة المشاعدة المدارة المدارة
- 10 و برگفاد 9 مَنَ نَهَرُدُودَهِ مَهُمُودَهُ سَدِمِيَّةُ بِيْ يَرْسَامُهُ عَرْدَهِ وَسَدْنَاهُونَوُدُو رَوَجُر مُهُمُونِدُوهِ مِنْ مُرْسُنِ مَوْمُونُ وَهُوْ كَرَوْهُمُ وَيَهِمُ وَيَهُمُ وَيَهِمُمُونُ وَيُهُمُونُو مَرْسُو سَدِمِيَّةُ بِسَافَةُ وَقُهِمُومُ مُوَوَقِيْوُنُو عَوْدُ عِمْمَةُ نَدُوهُمُونُو وَيَهُمُونُو مَرْسِوْ وَقُهِمُونُو مِنْهِمُونُو مُوَرَدُوهُونُو وَمُرَاهُ عَوْدُ عِمْمَةُ نَدُوهُمُونُو مَرْسُونُو
- 11. كَانْ وَقَالَ مَا مُوَاسِمَةُ وَ سَمَرِهِ اللَّهُ مِنْ مُورِدُ مُ مُؤَوِّدُ مُرَّوَدُ مُرَّوَدُ مُرَّوَدُ مُ مُورِدُ وَسَادُمَ مُورِدُ وَمُرَدُ اللَّهُ مِنْ مَرْدُدُ مَرِدُ وَمُرْدُ وَمُرْدُ وَمُرْدُ
- مِيْرِيْ وَمَنْ مِنْ مُوْمَدُونِ مِنْ مُوْمَدُونِ مِنْ مُورَدُونِ مُورُونِ مُورُونِ مِنْ مُورُونِ مِنْ مُورُور مُرْمَانِ مُورُونِ مُورُونِ مُرْمَانِ مُرْمُونِ مِنْ مِنْ مُرْمُونِ مِنْ مُرْمُونِ مِنْ مُرْمَوْنِ مِنْ مُرْمُ مُرْمُونِ مِنْ مُرْمَانِيْ مُورُونِ مُرْمُونِ مِنْ مُرْمُونِ مُرْمُونِ مِنْ مُرْمُونِ مِنْ مُرْمُونِ مِنْ مُر
- 13. كائي وَ مَا مَارَا مَعَرَقُ مَارِيسَاءُ بِرَكُمْ بِدُسُادُمُ 2 وَمَا فُرُورُو الْمِلَادِينَ فَرَوْ الْمُورُ وَبِهِمْدُهِ عَمْدُ وِرُمْمَدُ رَدُّ رَوْمُ مَانْيِهِمْوَدِ بِوَظِّ مَرْسَيْمِ وَمُوَدُّمُونَهِ، الْمَاوَدُ وَدُمْ وَمْرِدِ وَبِالْمِنْ وَدُورُدُورِهِ وِلْمِادُورُ الْوَرْدُونُ
- 14. گۇرۇپ ئازۇسىتى سىروسىد برگا بىلىشىدى د دىسە ئۇزۇ ئىلادىد، ئۇر دۇرۇ ئىلادىدا ئۇر دۇرۇ ئىلار دۇرۇ ئىلار كارى ئايىرىدىد ئىلى بىلى بىلىدى دۇر دۇرۇپ ئارىرىدى ئىلىد ئىلىد ئۇرۇ ئۇرۇپ ئارۇپ ئارىدى ئىلىدى ئۇرۇپىدە ئىلىدى ئىلىدى بىلىدى ئىلىدى ئىلىدى
- 15. دِ بِرَكُونُ 14 وَمَرَ رُرَدُوْوَرَهِ وَهُرُونَهُ وَثَرَبَيْ مَرْمِوْمَوْدُ رُوْمُدُدُونَمُرُ مُوَوُونَهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمُرْمُونُهُ وَمِنْ وَمُونُونِهِ وَمُونُونُهُمُ وَمُونُونُهُمُ اللَّهُ وَمُؤْمُونُهُمُ اللَّهُ وَمُونُونُهُمُ اللَّهُ وَمُؤْمُونُهُمُ اللَّهُ وَمُؤْمُونُهُمُ اللَّهُ وَمُؤْمُونُهُمُ اللَّهُ وَمُؤمُونُهُمُ اللَّهُ وَمُؤْمُونُهُمُ اللَّهُ وَمُؤْمُونُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَمُؤْمُونُونُ اللَّهُ وَمُؤْمُونُ اللَّهُ وَمُؤْمُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- 16. گائروش خارشىتى ئىلى ئىلى ئەلىكى ئەلىكى ئەرىنى ئەرىنى ئائىدى ئەرىنى ئىلىكى ئەرىكى ئەرىكى ئالىرىكى ئىلىكى ئەر كىلىكى ئائىلىدى ئائىرى ئائىلىدى ئىلىلىدى ئەرىكى ئەرىكى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئ

ئرفرنه هذه برائم شرستف شر و زفر الافوال به هو البره هد و دهد و زهد و فرق المرفود المرفود و فرود المرافود المرا المرفز الافوالية المرفود المرفود المرفود المرفود المرفود المرفود المرفود المرافود المرافود المرفود الم

- 19. كافروقى ئادا ئىنىدۇ ئىروشىد بولاغ رەشىدى دۆزى زردى، ئۇدىر بو كېرېدىد ئادۇر دۇرى دىزى ئادۇرى كادۇرى دۇرى بادىدى دارىدى دارىدىدى دارىد دارىدى دارىدى دارىدى دارىدى دارىدى دارىدى دارىدى دارىدى دارىدى

# הייתה בתינהל הרביל הילה של ביל בילו ביל ביל היינ

### 7.1 צלבולהלה השללה הן הכל שללהלה

ولموشقه فوطوده عدد وورهه عدد وردد السند الدور درود الدور والما المراهم المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد ال

مَعْرُوْدِوْ وِرْمُعْدِ وَوْ مَدَوُوْدُوْدُ دِرْ بِهِ مَسَادَةُ وَهُوْ دُمُوْ دُرُّ وِمُوَسَا (دَرَ طَوْسَعُ دَمُنَا لِلْهُوْسُ) وْ 26 وَمَرُ وَهُوْ (رَ)وَبِ وَبِهِدَهُ دُرُهُ مَمَوَا مَرَوْهُوْدُوْدُ اللهُ دَوْدُوْ دَنْرَةُ اللهِ إِرْدُولُ رَمْعُ اللهُ اللهِ رَبِيْ دَوْدُ دَوْدُوْرُوُوْدُوَدُ اللهِ وِرَدُ المُؤْدُ وَلْمِهْمُوْدُوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله وَرَدُ المُؤْدُ وَلْمِهْمُودُوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا



21. كائر وقد المناه المنظمة المنظمة المنظمة المؤدرون المنهورة المؤدرة المؤدرة المنظمة المنظمة

## 8. בשם מהשעמכה למשתמתית

### 8.1 وُوَسِ مُرْوَمُ كُلُمُ مُدُونُونُ ثُرُونُ لُكُمْ مُدُونُونُونُ ثُرُونِ

وَمُوَوْدُ سِوْدٍ وَمُوَدُودُونُوعُ مِمْمُعُ وَسَادُوَوْدَيْ رُوسٍ رِوْطُ عَبِوْدٍ وَبِدُ رُحْدَ تَغَيِمُدُودَدِوَوَ حَوَوْتُ رُوسِيدُ وَمُودُ رُدُورُ يُحْدَيْ رَوَدُونِ رُوسِتُغَاوُونُونُونِ، رُوسِتُغُودُ رِمْدُدُ يَّوْعِيْ

ژوس «سائدزر زنرود بالمرث» خوزهمار وبا جائزتان وزوناها المسائدة بالمائدة المسائدة المائدة المراه المائدة المائدة وبالم المائمة المائد أوبر أبر المياشان في المائمة والمؤنال الازانالم والموائدة.

### 8.2 گام برند عالم دور مان فوردی

"سه و دره و در و دره در دره و دره و

"فَهِ تَاسَعَهُ مُنْاسَاتِهِمِ" وَهُوَ وَهُوَ وَمُؤَوْ وَمُؤَدِّهُ مُرَدَّهُ وَسُّ مُمَوَّدُهُ لَا وَوَلَاوَهِ وَلَاوَهُ رَوَوُ طَسْعَوْهُ وَهُوُوْهُمْ مِلْوَهِوْهِنَ وِ وَهُوَدِ سِهِمَوْ مَرَّمَاتُهِ، طَارُهُ مَوْدٍ خَهُ مَرْمَاتُهِ، الْوَلْهِ خَهِوْ دُوْلَهِ وَهُمْدٍ، مَوَدُ مَهِ مَدُوْدٌ وَهُوْدُهُ مِوَثَرُوهُمْ وَمُرْوَدُونَهُ وَرَوْدُودُوْ. قرائق ولامؤدمه من المنه المن المنه المنه المنه المنه المنه المنهم المردد وسهد المزدد والمنه المردد والمنه المردد والمنه المنه والمردد والمنه المنهم المنه والمردد والمنهم المنه والمردد والمنه والمردد والمنه والمن

المراد المرد ا

دوره هذه ودوره زود زره وره هوود وهد روهده دورند هاهمه طاه ودوره ودوره رود رودره هاهمه ان (ماور) هر حزب وباه ۱۹۵۰ وبرمان باشره باروش المروش المروض المروش المروض ال

## 23343422222 -332 32822 8.3

دُورٍ عَوْدَ رُوَسٍدَهِ مُعَوَّمُو عُمَوْتُ خُرَدُهُوْدَ رُدُورَ مِهِوَدِهُ مَهُدُ جُرُمَوَدُهِ، دُرُمَوَدُهُ وِوَرَ مِنْدَسَاعُ مُرْتِرُوْمَوَرُهِ، عَاجَدَ وَهِ جَرِيَدُ وِوَرَ طَرْدُ وِهُومِدُوْدُ وَوْرَدُ رُحْوَدِوْدُ عَنْ ا هن گردند روسه پرزده دیودیم وزدندروزددد. دربیده دوره هن بهده هند سپهلپ دخشورد هشتن برده و دربید وزنده وزنده در دخشورون درد هنده متوفره فرده و دربید منده در دسته دربید دربیده د هنده دوودده و دربیده برزده دیودیم وزده فروزددد.

مردرود خودودرده مردوره همه مردوره دروره بردوره بردور بردور بردور ودور درور المروره ودور دروره المروره ودوره ودروره ودرور

دَوْرِهُ مَنْهُ وَ 49/2016 ( قَارَهُ وَ دَوْرِهُ) وَ عَرْوَهُ 3 ( قَامَادُوهُ وَهُمَادُوهُ وَهُ) دَرِ عَمُهُمُ فِي اَرَوْمُ هَرْدُهُونَهُ حَرْدُوهُ وَلَا هُمَا اَرَوْ الْمُهُمِّ وَلَا رَدُورُ الْمُعْوَرِدِهُ وَمُعْمَنْهُ عَمْهُمُ فَيْ الْمُعْمَدُ فَيْ الْمُعْمَدُ وَقَيْمٍ مَهْدَوْدُ وَمِ مَهَادُورِ مُومَا وَمِنْ مَوْذُولُ وَمُومَ وَهُمَا مُعْدُورُ مِنْهُ فَيْ الْمُعْمَادُورُ وَلَا وَمِ مَهَادُورُ مُومَا

## 8.4 8 march 25 468 4 468 4 25 25 26 8.4

و سورته همره هندتهم هند هما هندن در در به باز در در در هما بر در در مندن و برداد مردد و برداد مردد و سودته الم المهار الما والمردد و مردد المردد المردد المرد المرد المرد المردد المردد

دَبِرِيْهُمَرُدُ طَلْمُونِرُورُورُ طُلْمُونِرُونُورُ هُوْ الْهُورُ "وَبِالْاسْتِيْرُ هُوْ" وَهُوَدُونَاوُنِ، وِ هُوْدَنِ طُلْمُ وَوَلَمُ وَبِرِ لَمُومَ عَلَمْ وِرُوْ مَرُورِ هُرِدَنِ، وَوَلَمْ طَرْفِ كَالْبِي شَرِ وَفِيْرُ وَبِمَدْ رِدَمُرَدُونَاوُن رِرَبِهُ طَارْهُمُودُ، طُلْمُ سِبِهِ وَرَدُورُونُ هُووْدَتِ هُرِدُ وَرَبُ وُرَدُونُولُو الْلَّهُ وَيُولُونُون مُعْرَدُ وَبِرِدَنَارُ لِمُومَ عَلَمْ وِرَدَارُ وِلْمِرْزِدُو طِلْمُ طَلِمُونُ وَوَلِمُونُولُونُ طِلْمُ سِبِهْ قبير خود عند وله وله وله وله تردون مددد وددونه وددونه الدور والهود ودوره والهود ودودهم والهود ودودهم والهود و الموطوفية الانتام وتردونه والمدرد والمدارة الكور عود المال المالات المال والمدور الافرارية المهودة المردد المود المراد الافرا الافراد والمودد المراد المراد المراد والمردد والمدور المدود والمدور والمدور المالات المودد المدور المدورة المودد المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة المودد المدورة ا

ئەند ئىرغىئەتەر ئاڭ ئۇقائىر ئەزىرىد ئەئىئەتى بىغ ئىدۇر ئىلە ئەئىئەتۇر، ئۇ ئائىر، دېرۇئۇۋ ئىر ئاشائرۇغ ئەئىئىر، ئاڭ رىئونى ئاڭ ئاندۇر ئۆلۈزىئىدىرىدۇ، ئە ئەرىپىدۇد غرىم ئائىل چەزلار ئۇئىر، ئازۇ ئىگا رەئەئەتۇر دۇلەغۇر يەزىدۇر دەئۇۋەلىلىد رىلىيەلىمە خىرخۇدى ئازدۇنىزۇردۇلدۇر.

دُوْرٍ عَوْدَهِ دَسَمُهُ عَمُوْدُ مُعْتَهُمْ وِهُوْ قُسْ رَوَدَهُ وِقَادَتُهِ مِرَوْسٌ دُوْرُدُ دُوْرُتُ دُوْر طَهُ مُوَدُوْرُدُ لَا يَمْعَهُمُ وِهُوْ قُسْ مِنْمِ بِمَ فَوَرُهُمَا وَدُهِ وَرِهُدُ وَرُهُوْ وَرُهُوْ وَوَرِهُ وَهُ وَدُوْرُهُمْ وُرَدُوْرُوْرُدُوْرُوْرُ

#### 26235538.5

49/2016 ئۆرى ئازئاستىن سىرى بىلىدى بىلىدى دا ئەسى ئۆزۈ ئۆلۈنى، ئۆرۈ ئۆلۈن ئۇرۇر ئۇرۇر ئۇرۇر ئۇرۇر 49/2016 (ئالىقا ئۆرۈر) ئە ئۇرۇر 3 ئىر ئائىلىدى ئۆرۈك ئۆر ئائىلىدى ئۆرۈك ئۆر ئۇرۇر ئۇرۇر ئۇرۇر ئۇرۇر ئىلىت ئىلىدۇر ئالانى ئائۇلى ئائۇلىد ئۇرۇر ئۇرۇر ئۇرۇرۇر

## ९ येमर केंद्र महिन्द्रिय वर्षि नेंद्र हेर्द्र वर्षित हेर्द्र न्यंत

### 9.1 בעלה לושות אל בי היה

ئېرىدى ئىدۇر ئېرىدى ئىدۇر دىدۇ ئۆسۈلىدى ئېرىد ئىدىدى ئۆدىدۇ ئۆردى ئەردەر دىدۇرى دۇرۇر د ئۆسۈلىدىدۇش ئېرۇ ئۆد، ئائىدى ئىدۇر ئېرىدۇ ئۆلىدۇر ئۆردۇر ئۆردۇر ئۆردۇر ئۆردۇر ئۆردۇر ئۆردۇر دۇرۇر دۇرۇر ئۆرىدۇردۇرىدى ئىدۇرۇرۇردۇرۇردۇر

دُرْرِ وَوْرَهِ وَهِ مِرْمَدُهِ وَمَرْ وَرَحْرَدُ وَرَوْرَدُ وَمُورُ وَرُورُو وَالْمُورُولُونُو وَالِورُو وَالْمُورُولُو وَالْمُورُولُو وَالْمُورُولُو وَالْمُورُولُو وَالْمُورُولُولُ

ئىمئىيەد زىرۇنە ئەزۇدۇر ئەنۇنىدۇد دىرسىمۇرى ئاچىئىنىڭ ئۆن ئەئە زىرى يەئىنىدۇرۇ دۇلاغ زىرىئىي. ئايىچى ئىر ئىرى چەنى چەنى ئاچىئىنى ئەنۇدۇلانى دىزىدىمى دىزىدىم يىسازىدىمۇرى دىلان ئادىردۇلام، ئاچىئىنى ئەدۇرۇلانى ئەدۇنىدىدۇ ئادىنى ئادىنىد ئەزىنىدۇ.

عَمَرَاهِ مَدَدُدُوْدُ مَمْمَدُو كَوْرِوْتُ لَى دَمَّ كَارُوْ دَمُرِجِهُ لِآنَادُ سُرَوْرِدَاوُوْ رِدُوْ وَلَاؤَهُ مَلِّدُ رِحُوْسُهُوْدُمُوْدُ سُرَوْرِهُمُوْدٍ سَوْوَنْدُوْمُ نَهِدُ مَلِّدُورُ رِحْرِدِدُ خَوِ رَدُورُوْ وَجَوَدُ رَوَوْرَدِوْنَاوَتْرِهِ وَرَرُدُ مِنْ تَوِمُوْنَهِ مَسْلًا رَدُونَاوْرَدُوْ وَرُدُو كَرُوْدُ وَسُولُوْ ئىمۇغىدى ئىڭىدۇر دۇنۇدى يەزدۇنىڭ ئەزدۇرۇرۇرى ئەرسىنىڭ خوخۇدى خورۇرى دېرۇرى دېرۇرى ئىمىمىدى ئىدۇرىدۇرۇرۇرۇرىدۇرى

المحادرة والمدارة والمدارة والمدارة المدارة والمدارة المدارة والمدارة والم

#### 25 2222 9.2

الانتراجة المراجعة المراجعة والمعردة المن المعارض المناجعة المراجعة المنترة والمنترة والمستراة المنترة المراجعة والمراجعة وال

 $\hat{z}$  المراقب مَرْجَهُ الْمَالِمُ (مِرْمِرْمُدُجَّةُ الْمُؤْمِنُ الْمُرَّوْدُ الْمُرْمُدُ) وَ 64 مَمَّ وَالْمَرْ (مُمَّرُ) وَ (مُرَامُ الْمُعْمَرُ الْمُرْمُ الْمُرْمُونُ الْمُؤْمِدُ الْمُرْمُونُ الْمُرْمُونُ الْمُؤْمِدُ الْمُرْمُونُ اللَّهُ الْمُرْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّمُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

ومرتب المستوط فود علمها فرده منه وهدون المتها دوهد المتردد المردد المرد المردد المردد

## 9.3 عَرْمُ رِدُودَ مُعْرِدُ مِنْ وَرُنْدُورُونِ دُسِيْدٍ وِرَبِيدُونِ وَعَالَمُونِ وَمُعْرِدُونِ وَدُعْنَا وَرُنْدُ

ئەدىد ئەرقى ئېسلونىي ئەرقىد رەئى دەئى ئەرقىد ئۇرۇر ئەرقىد ئۇرۇردى ئەرقىد ئەلى ئەرىد ئەرىدى ئەرىدى ئەرىدى ئەردى ئۇر ئارىد ئەرىد ئەرقىد ئەرقىدى ئەردى ئۆرۈردى ئۆرۈردى ئەردى ئەردى ئەردى ئەرىدى ئەردى ئەردى ئەردى ئەردى ئۆرۈردى ئۇرۇر ئەردى ئەردى ئەردى ئەرقىدى ئۆرۈردى ئۆر ئۆرۈردى ئۇرۇردى ئۇرۇردى ئۆرۈردى ئۆرۈردى ئۆرۈردى ئەردى ئۆرۈردى ئۆرۈ

ئېږىڭى ئىلى بىلى دۇرۇد ئېرۇرۇشى دارۇرۇرۇشى ئىلىنىدى بىلىردى ئىلى ئۇلۇد دەۋۇرۇرۇپ ئىرىلىنى ئىلى ئىزۇتىدۇرۇپ ئىلە ئېرىلى ئىلى دۇرۇرۇپ ئىلى ئېرۇرۇپ ئىلىنى ئىلى ئىزىدۇدۇدۇرۇپ ئىلى ئېرىلى ئىلىدۇرۇپۇرۇپ ئىلى بىلادۇرۇپ ئىلىلى ئىلىلىلى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىدۇرۇپ ئىلىنى ئىلىنى ئىلىدۇرۇپ ئىلىلى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىدۇرۇپ ئىلىدۇرۇپ ئىلىدۇرۇپ ئىلىنى ئىلىنى ئىلىدۇرۇپ ئىلىدۇرۇپ دىلىنى ئىلىد ئېرى ئالىلىلى ئىلىنى ئىلىدۇرۇپ ئىلىدۇرى ئىلىدۇرۇپ ئىلىدۇپ ئىلىدۇپ ئىلىدۇپ ئىلىدۇپ ئىلىدۇپ ئىلىدۇرۇپ ئىلىدۇرۇپ ئىلىدۇپ ئىلىدۇپ ئىلىد

#### 2623553 9.4

- 24- گۇرۇپ ئائۇستىنۇ سىروسەڭ بوڭ رەشادار ئۆزىل ئررۇپ قوقۇنى گۇقۇرىنى ۋە 13- 24- 24- كاۋۇرۇپ 10- 24- كاۋۇر دەشەئىرىزدۇ ئادرىمىد قائىرىدى ئائىدى ئائىدى ئائىدى كائىلىدى ئائۇنى ئائۇنى ئائىدى ئارۇپ داشەئىلىد ئۇئەنى ئىدۇ ئىلىدى ئائادى ئائىس ئۇنىڭى ئىدىكىدى، گۇنائىلا ئائىل قائىرى ئىرىكىدى دىئىدىنىڭ ئۇزىشۇنى ئۇزىشۇنى بىلىد
- 25. گائي ٿي نائل ڪندڙ ڪروڪڙ پرگائي پائلٽڙي ا دَڪ ٽروز ڏهڙوي، گائيٽائي و پروڌ پريدو پريدو ۽ يودو پريدو ۽ يودو پ دهندان ڪريدو ڪرور ڪرو پريداني ڪائيٽر ان پريدو 4 جن گائيٽرو کو تريد دائي گائيٽر پريدو ڪرور پريدو کو پريدو کو جن ان پريدو کائي جندو کرو کي تروڪ پريدو کي پريدو کائيٽرو کائيٽرو کائيٽر کي کائيٽر کي کائيٽر کي کائيٽرو کي کائيٽر
- 27. گئی قدم ناره سندتو سندوسته برگا بهشانه ۱ دند نروزده پلاتی، گزیر کاره و کرداده زمی شازهٔ بدر زماده نازوردارو و کاره کاره در دری کاره بیمویه درد و در در در در در در درده در در در دردود در در دردود برگاه شوسته بهشاده

## 10.1 666666666 ومرسمه مدووة مدووة

غَوْدُ مُعْهِمَدُهِ غَوْدُ دُوَدُهُ وَرُحْمَدُ مُدُوَعُودُهُ بِحَدُّ وُرُودُودُمُوهِ جَوْمِهُ عَاسَمُهُدُ وَمِ غَوْمُ صَّحْمَدُهُوهِ مُعَمَّدُ مُوَدِ بِحَدَى غَوْمَدُدُ وَدِ بِرَثْرُ عَدْدَبِهُ كَانْبِوْ عَرْدُهُ عَرْدِه بِرُ خُودُدُ وَمُحْمَدُهُ دُودُهُ وَرُدُهُ وَرُدُهُ وَرُدُهُ وَرُدُودُ وَرُدُودُهُ وُرَدُودُودِ وَرُدُدُدُ.

المؤون د رئدهن دوره المردد المنافرة المردد المنافرة المردد المنافرة المردد المنافرة المردود المردود المنافرة ا

المراد المارد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد

شهرت و دوه و المواد المراد و المداد و المداد و المداد و المدار و المداد و المداد و المداد و المداد و المداد و ا المداد المساملات المداد و المداد و

ۼٷڎڔڎڔڟڎڎڎڎڎڞٷڿڎ؋ڔڒڔڎٷڔڽڕڟۺ؋ڟڎ؋ڎڎڿ؋ڔڽڎ؋ڔۺڎ؋ڒڒۼڿڎڎٷڟڎڰۿڎۺ؋ۮڎ ۼڿٷڟڎڟڎڰڟۿڿٷڎڎڰڰۿڎڮڎٷڟۿٷۼڎٷڰۿٷڰۿٷڰؠڎڰۿٷۺٵٷڰۻڿڰۿڴۮۮڒڒڒڒڰۿۿٷڴۮڿۿ ئىلموقىل ئىلىمىدى. دۆلۈنى ئۆدىر دىسىدىنىدى لىلادى زىرىمۇنىد، دېرىرىدىد ئىلار دارى ئاۋىرلىر ئىلىدىد دىدى دېدى ئادىنىدىد ئادىنىدى ئازىنىدۇد.

غۇرۇرى دىسىدىدۇرى دەرەن دەرەن

#### 2523552 10-2

28-گۇرۇش ئىزئاستىنۇ سىروسىڭ بوڭ رىئىشىنىڭ 1 ئاس ئونۇد ئىلانىي ئۇزىر ئاستىنىڭدۇ ئۇندۇزىلىنى ئاشتىنىدۇ يەنىنى ئىيىنىنىڭ ئىلا ئىير ئايىلانىڭ ئىلا ئايۇنىدى سازىمېرلىنىڭ ئاندۇشى ئاشتىنىڭ ئانىلىلىرىلىنىڭ ئاقانىلىنى بىرىنىڭ ئايىنىڭ ئىزىد ئىنىنىدى دائىرىنى ئالاردۇ ئىرىنىدىنىڭ ئىندېرىدىنى بىلىنىڭ ئىنىڭ ئىزىدۇش

## ון שונה בפוש נית

#### 

با قاري غاردي مو ديوشي خار وزين بيد بارده الانتار خارد غارد ديد المعارد المعارد

ٷڐڐڔ۫ٷڟۺڟٷڎڎڔڎۻڰڎڎڔڎۻڰٷڟڎٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰۅڟڰ؋؞ٷڰۅڟڎٷٷٷڴۿٷٷٷٷڎڎڎڎڰڰٷڰ ٷڒڎٷڎڟڎڟٷ؈ڰٷڔٷڝٷڟڡٷڴٷڝۻٷڝۻۅڝۅڟڽٷٷٷٷڔڔڟڎڎٷڔڔڝٷٷڒڒٷڰۿڔٷڒۯڰۿۿٷ ڔٷڒڔٷٷڰڰڰڰڰڴڴڴٷڰٷڰڰڰڰڰڰڰ

#### 11.2 وشع تقفرتية لاهد وشوشهمة

سَمَرُنَّهُ وَمُو خَرِرَدِمَ وَ مَرْرَدِمَنَ وَرُورَ مُرَوَدَهُ وَمُورُ وَمُورُ المَرْمُ 8:00 مِنْ رَوِدُ 16:00 مِنْ مَرْدُورُ 8:00 مِنْ وَمِرْدُ 8:00 مِنْ وَمُرْدُ وَمَرْدُ 8:00 مِنْ وَمُرْدُ وَمُورُ وَمِنْ 16:00 مِنْ مَرْدُورُ وَمِنْ 16:00 مِنْ مَرْدُورُ وَمِنْ 16:00 مِنْ مَرْدُورُ وَمُورُ وَمُرْدُ وَمُورُ وَمُرْدُ وَمُورُ وَمُرْدُ وَمُورُ وَمُرْدُ وَمُورُ وَمُرْدُ وَمُورُ وَمُرْدُ وَمُورُ وَمُورُ وَمُرْدُ وَمُورُ وَمُورُونُ وَمُرْدُونُ وَمُورُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُورُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ ونُونُونُ وَمُونُونُ ون

## 2222 1236233 11-3

دِ عَوْنَهِ مَحْمُوْلَارُورُهُ دِنْهُ مُرْنَهِ مَرُهُ مَوْمَادُ دِنْهُ مِحِدِنَ دِرَرُ دِنْهُ ہِنْدُ ہِرُدُورُ دَسَدُنَاهُانْدُ الْاَعْمُدُمْهِ مَنْدُهُ رِمَعَهِ، مُرْمِنْهُ وَعَدُعُورُهُمَ دِرَرُ مَحْدُنَهِ رِدُوْ اَلْهِ مُعْدُ رَدَمَدُ مُعَدَنَادُ رُحِنْهُ دِنْهُ مُرْدُورُهِ، مُرَدُهُمُونَ اِسِدْدٍ مُهِدُهُ مَعْدُمُونَدُهِ، دَوْسُ مَوْمِدُ رِجِورُهُوْ مَمْعَدُودُ وَمَرْدُورُهِ، مُرْدُهُمُونُ الْدِسْعَمُو رُدَادُورُورُ

The signs of life that may be monitored or measured, namely pulse rate, respiratory rate, body temperature, and blood resoure

ئېڭىنىڭ ئىترىز خېرىنى ئېتىنىڭ ئىلىگ ئىنى ئىلىلېرىنىڭ پىنى ئىلىلى جەزىد رەئۇلىلىلىلىلىلى ئېڭىنىڭ ئىلىلىن خېرىنىنىڭ بىر ئەندۇلىرى ئىردۇلا ساھەلى ئىزى خېرىك ئىنىدۇنىڭ ئامېرىلىد ئىنى چىلىگ ئالىلىنى بىلىسىيىنىڭ چىل ئەنۇنىڭ ئىلىلىنىڭ ئامېرىلىد ئىنىدۇنىڭ ئىلىلى بىرىرى ئىلىلىدى ئادىلىنىڭ ئىزىنىدۇرىدىدى

جهد المهدد المه

## 11.4 وَسَمَدُونَهِ وَوَدِي وَمِنْ مِرْثِرُ مِوْدُ مِمِيدً

دُورِ عَوْرٍ مُدُقَّدُهِ دِوْمُ عَمْوَنْهُ دُمُو فَيْ عَوْدُورَهِ، سِدْرٍ دِوْوَمُ وَرُورُورُ مَوْمِهُ رِورَهِ وَ دُورُعُورُهُ وَفُودُهِ، مَنَ عَمْدُ عِنْهُ سِدْرٍ مُومُومُهُ مُهُوْ مَنِ دُورُعُورُهُ وَسَدَمَ مَدُورُهُ رِهِ دُسُمَنَاهُونِ، دِ عَوْمُ وَمُومُونُ سِدْرٍ دِوْدُهُومُهُ مُمُو وَمِرَدُونُهُ وَرُورُودُونَ وَبِرِ وَمُونَافِونِهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُدَاوُمُونُ وَمِرْدُونُ وَمُورُونُ وَمُ

دَوَدُوَرُودُ دَوْدَبِ مَرُوْدُودُمُودُ گُورُوٹُ مَدُومُرُو سَرِبِہِدِ دَفَرُوْمُونُونِ دُوَمُو بِرَبِّ دَوَدُورُومُرُدُ مَدُودُ دَدُوٹُ دَوَوَمُسَادُ مُوفِادَتُنِ، رَدُونُو دُورُونُدُودُ بِمَبِدُ ﴿ وَرَبِدُ مَعْدُ مَدُمُدُ بِرَدُدُ وَمَرَوْمُونُونِ، مَرَوْثُ بِرَوْرِ مَرْزُومُرُدُ مَدُدُ دَبِرُ رَدِدُ صِدْمُرُو گُورُوٹُ مَدَامِرُ ستروشهد ودورد ودورد ودورد وردو المراه ودورد والمراه و

ئۇدەر دەرەدىد ئىدۇر ئىدىدى ئىرىد ئىدىد ئىدىد ئىدۇدىنى دىدۇ تىدىد سىدى رىدۇرى ئالىدۇ ئەرەئىد ئىلىدۇرى ئىدىد دې ئۇ ئىدۇرى ئىرىدى ئىدىدى ئىردىد ئىردىد ئىردىد ئىردىدى ئالىدى ئالىدى ئالىدى ئالىدى ئالى (ئىرىدى ئىلىدى ئىدىدى ئالىدى ئىرىدى ئالىدى ئالىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىدىدى ئىدىدى ئالىدى ئىلىدى ئالىدى ئالىدى ئالىدى ئالىدى ئالىدى ئالىدى ئالىدى ئالىدى ئىلىدى ئىلىدى ئالىدى ئالىدى ئىلىدى ئالىدى ئالىدى

#### 3683352 11.5

- 29 كَانْ وَمَا مَنْ مَا مَنَ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مُورِدُ وَمَا مُنْ مُورِدُ وَمُورُو مُرَدُونِ وَمِدُون مَانْ مَا مَنْ مَا مَنْ مُعَالِمُ وَمُورِدُونِ مِنْ مُعَالِمُ مُورِدُونِ مُعَالِمُو وَمُودِدُونِ مِنْ وَمُورِد
- 30. چ برگفاد 29 قىتر ئىزدۇۋۇبۇ ئاشىمە بىلادىل ئۇنىدۇلى غۇندۇد دېدۇ شاھقىرى سېدى ئىيىتىيىڭ ئۇدىيىت چەزبۇرۇ ئۇدۇغۇر يىلانىدىد
- 31. كائي وَمَّ مَانَ مَمَنَ مَمَوَّ مَرَوِهُمْ مِنْ مِنْ مُعْلَقُمْ 3 دَمَّ فُرُورُو الْمِنْوَدِ، عَانَ وَمَا وَمُورُورُورُو وَمُنْ مُنْوَ الْمُنْ وَمَنْ وَمَانَامُونُو وَمُنْ وَمُنْ فَرَانُورُو مَنْ مِنْ فِي مِنْ مِنْ فِي مِنْ الْمُنْ الْمَوْدِ مِنْ وَالْمِنْ وَمُنْ وَمُورُدُهُمْ
- 32 كافي قدم خارف ستمثر ستروسات بركل باششادت 3 قدم فروزو فرنزدين خاود وي عال سلاخ فروت المدورون المدورون المدورو قسته خام فاقد فرفائ فرهم فرن المراج المراج المدارون المدورون المدورون
- 33. كالرياف المراد المسترف سنروسات مركان مراد المرادة المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا وسندانا المراد المراد المراد والمراد والمراد المرد المردو المردو الماد المرد المرد المرد المراد المرد ا



الدون ورا المراد المراد و و المراد و المرد و

مِرْفِرِيْدُةُ وَالْمُرْمُونُ وَيُرِفِيُوهُ وَالْمِنَ وَيَرْدُ وَيُرْفُرُونُ وَالْمُونُ الْمُونُ الْمُلُوعُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُواللّهُ وَلّهُ وَلّه

دِ عَوَدُ ثَابِ بِمُنَهُمَاتِ عَرْ بِحَرْدُونِ الْوُوْفِيِّ وَمُعْمَانِهُمْ وَوَدُعُونُهُ الْبِرِ وَمُسَانَاهُ وَبِالْوَ سَلَهُمُ وَمُوْفِهُ وَوَدُعُونُونُ الْبِرِهُمُ الْمِعْمِلُونُ الْمُوْفِقِ الْمُوْفِقِينَ الْمُؤْمِّقِ وَمُوْفِقِهُ الْمُؤْمِنِّ وَمُسْتَمَا وَمُوْفِقِهُ الْمُؤْمِنِّ وَمُعْمَانُونُ وَلَهُمُ وَمُوْفِقِهِ وَمِيهُمُمْ مِعْمَلُ وَمُوفِقِهُ وَمُوفِقِهُ وَمُوفِّ وَمُوفِقِهُ وَمُوفِقِهُ وَمُوفِقِهُ وَلَهُمُ مُعْمَانُ اللَّهُ مُعْمَوَوْقُونُ وَلَهُمُ مُعْمَانُ اللَّهُ وَمُوفِقِينَ اللَّهُ وَمُعْمَانُ اللَّهُ مُعْمَوَوْقُونُ اللَّهُ وَمُعْمَوْدُونُ اللَّهُ وَمُعْمَوْدُونُ اللَّهُ وَمُعْمَوْدُونُ اللَّهُ وَمُعْمَوْدُونُ اللَّهُ وَمُعْمَوْدُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَوْدُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْمَانُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَوْدُونُ اللَّهُ وَمُعْمَوْدُونُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِيلُونُ اللَّهُ اللَّ



## 1 -3336

# دِ ۽ مُرَدُولُ ارْزُولُولُولُ

| دِ بِينَا لَمُنْ لَ        |     |
|---|-----|
| ١٠ كالمارة من المار المرود برق بالمائية 3 وما فروز و لمانات المراد و والم   | 5-4 |
| كبريدهم علاقر وزه منازم الالافلا عرسي المنظوا الماؤلار الما المتوانية زود   |     |
| 2. كالروث المال المالية المرساء بركا بالمالية 4 دام وواود لازر البال الالارود د                                       |     |
| وَدِيرِهُمْ مِنْ وَرُمُ مُنَارِدٍ مُوْرُوهُ وَوَرُدُ مُنْ وَوَرَدِهُ مُوْسِيرٍ مُنْهُورُ وَرْرٍ عَوْرَهِ              |     |
| 22,2322 2262 666364 22626   |     |
| 3 كالروث المناسلة المراهة بركا بالمشائدة 1 أرثة فروزة فالأوب البائد المائدة وذه                                       |     |
| وبريدته عدفر وزه منابرتان عيدهون عبيزوروو وهومامناووه ودب عدد   |     |
| 2223,3  |     |
| 4 كالروث منزه منه مرحد مرفع رشاه له 6 وم فروز و فراد در و و و و و و و و و و و و و و و و و و                           |     |
| المردور سدر دومه سخدرر ورود درود وراء سدخر سخدور مخدور  |     |
| 5. كالروث المناسية سروشة بركا رشانة فوزه فرده المار الزهانار المرادة  |     |
| شَوَمْهُ وَالْمُورِ رِوْمٌ وِرِهْ مِرْهُ مِنْ مُنْ فَالْمُورِ وَمُنْ مُرْ مُؤَنَّ الْمُدُونُ الْمُرْدُدُ الْمُومُدُدُ |     |
| فرينة شدة يرز وزر   |     |
| 6. كالروف مَاذِنْ مَعْرَف مَرْمِ مِنْ رِيْعَ رِيْسَاءُونَدُ 1 وَمَا وُوَرُوْمُورُونِ الْدُرِ رُوْمُونُورُ             |     |
| المراور المسترور وولاورو ووالمراج المرود وباو المراور الروورور وواور  |     |
| 2225  |     |
| ٦. كالروث مازه منهو سروشات بركاع راشان الوازاد الرواد الديروالي مادار وزاد الاعاماد                                   | 6.6 |
| ولانوور لولاوري فرمودور ولابرا والمترار والانال الموادي وبالما والمراج والمراج والمراج والمواورم                      |     |
| وَرُوْرُ وَوْرِوْرُ مَوْرِ مَرَوَرُوْرُورُ  |     |
| 8. كۇرۇم ئىزئاستىرۇ سىروسىد برى ردشائىد 6 دائە دۆزۈلۈرىد ئۆزەر ئىردىدۇر   |     |
| مروشير خوخان زفرة كوفرفرة وبريرفري خافرة والمزاز فوبرناؤ خافي فرفاة سارع ساستاؤ                                       |     |
| 225 242222 282  |     |
| 9. كالرباط المناسخة المراجة بركا بالمشائلة 1 درية فروزو لميتانيا المنافر المنافرة                                     |     |
| 14/2013 (مِوْرِمُدُجُّةُ جَوْمَتُهِ وَمُوْدُ وَمُرْدُ) وَ 68 وَدُوْدَهِ خَرُمُنْدُورِهُ وَمَهِمْ خَرْمَهُم            |     |
| سَمِيدُةُ مِنْ مُرْسَدُهُ خَرْدُهُ عُرْدُهُ عُرْدُهُ عُرْدُهُ عُرُدُهُ عُرُدُهُ عُرُدُهُ عُرُدُهُ عُر                 |     |

- 12. گَوْرِهُ وَمَ مَمْنَ مَعَرَدُ مَرِوِهُ مِنْ رِيْسَاءَهُمُ ا يَرَدُ وُوَرُوْمُوْرَهِ عَوْدَهِ مَعْرُوْرُورِ مَرْسَى مَوْمَعَدُ وَمُوْ كَوْدُهُمُ وَمِرْهُمُ مِنْ وَرَهْمَوْ مَعْرُدُو وَمُعْرَدُ مُعْرِدُهُو وَوَدُ وَهُدُو مِعْمِعُ وَمُعْدِدُهُ وَهِ وَمُعَامُدُ مُوَمَ وَهِ مُرِهُمُونَ مَهِدُودُورٍ جِهْدَمَاهُمَا وَوَقَعُودُ وَهُومُو وَمُومِعُودُونَوْ
- 13. كَافُرُونْ مَا مَا مَا مَعَمَدُ مَرِيهُ مِرْكُ مِنْ مِنْ الْمَا مِنْ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ اللهِ اللهِ اللهُ الله
- 14. گۇرۇش ئىلامىتى ئىرىسىدۇ بىرۇش بىلام بىلام دەن ئۇلاد لىلازى ئۆلەر ئىلاد ئىلار ئىلار ئىلار ئىلار ئىلار ئىلار ئەيىلىنى ئىلىر ئىلىرى ئىلىلى ئىلىرى ئىلىرى
- 15. چ برگاف 14 قىر ئىزدۇقىد ھەھىمىڭ قىرىنى ھەنچۇھىمىڭ ئۆلۈنىدىدىنىڭ ھەنۇنىڭ ھۆز قايىنى ئىدىنىڭ ئۇلۇلانىد ئىزىدىنىڭ ئىزۇردىنىڭ
- 16. كافروقت المناهنة المدوسة بركا بالمسائد فروند فردند الروال المواد المدود ال
- 17. گائي و ما المان منظم منظم منظم المنظم ا

- 19. گافروش ئارد شندو سروست برگا باشدد دوند زبردی فاود بر کابروشد نادو چاند نازد سندو گافرد دنبرده بردیدهد د نادو بردیدند دوند زارد مندورد و در در بادیدهد نازد کابرد دورد مادو چاند بادود مندورد

- 26.26 كالمائدة المؤلمة المروسة والله والمستائم المائدة المؤلمة المؤلمة المؤلمة والمرتب المراد المرتبية المرادة المراد



- 27. گائي ٿائي سنڌي سنوسند ۾ گا ۽ شائند ا دَب دُورُونُونَو، گاڻي ۽ ڏوڻو گاڻيڙ رُمَيْ سائينَ ارْدَيْم مَرَوَمُونُونُو ڏيني گاڻي ٿا دي دي اين اين ايمون هي ٻو دُونِد دورِيور مَرَمَوْ الْمُدُورُدُ رُحْ مَدُونُونُونُ مَرِ مَدُونُو بِي آنِ مِينَ اِيسَادُونَ
- 10.2 گاروش المراحدة مركا بالماردة المركان بالماردة الماردة الموادة المورد والمردود والمردودة المردودة المردودة
- 11.5 وي گروف عنده سترو ستروست بري ردشاده ۱ درند دوزود و برستوجد ور عنده سترو شعروبد سودر دردود عصمه وردود ردود
- 31. گائې ۋە ئائىلىنىڭ ئىرچىڭ بىڭ بىئى بىلىنىڭ 3 دىڭ ئۆزۈنۈزى ئۆزى ئۇزى ئائىلىق ۋۇرۇ چانىڭ ئىنى ئىنى دىنىدىنىڭ ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئىرى ئۇنىڭ ئۇرۇرى ئىلىلىلىنىڭ ئۇنۇرۇرى ئۇرۇرى ئۆپ بىڭ بىلىدۇر ئىنى ئۆزىگەر
- 33. گۇرۇپ ئازە ئىشىرۇ ئىروپ ئىرى بەلىشىدى 6 دىڭ ئۆزۈنى ئازۇردى ئۇزۇر دېتۇ ئارۇپى ئۇرۇپى ئۇرۇپى ئارۇپى ئارۇپى د دىنىدىنى ئارىدى ئۇرۇپى دىلىرى دىرى دۇرى كۆرى بىردى ئارىدۇ ئارىدۇ دېدۇ ئىردى ئىرىدۇ دېدۇ دېتۇ ئارۇپى ئارۇپى كۆرى



و توستنرهٔ مِنْوْسُوهُ وَسَنَدُ وَيُوْوَنُوهُ وَ سِعِ مَنْهُ مُنْ 168-1(E2)/167/2019/33 (2019 غَرَوَمٍ 2019 مَرَدُو مِنْ 23) مَرِ 2019 مَرَدُو مِنْ مَنْدُو مَدَرُو مُنْ مَرَدُو وَمِنْ مُرَدُو وَمِنْ مَرَدُو وَمِنْ مَرْدُو وَمِنْ مَرْدُو وَمِنْ مَرْدُو وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ مَا مُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَالْمُعْمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُعْمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُوا مِنْ وَالْمُعُولِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَالْمُعْمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ مِنْ مُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُعْمُ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعْمِقُوا مُعْمُوا مِنْ مُنْ وَالْمُعُولُونُ مُعْمُوا مُنْ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُعُلِمُ وَل

| 2222323   |   |
|---|---|
| غَرْدَهِ مِنْ مَدَّهُ وَرُدُ دَوِ دَمِرِدُو مُرْدِهُ مَرْدُهُ وَرُدُو نَاشِرُو رَدُوْ مُرْدُو دُوَرُو دُورُو المَرْدُودُ وَمَرَدُودُ اللهِ اللهُ الله | 1 |
| و الراؤي وفروه المراه منه مراه المراه المراه المراه المراه والمراه والمراه والمراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه والمراه و | 2 |

### 3 -356

دِ تَادِسَهُوْ دِرُوْسُوِلُاسِهُ وَرُوْدُونِهُ دُوْرٍ فَوَدُ عِمْدَهُورُورُ دُ وِرُوْدُونُ مَرَوْدُورُ دُ وَرُودُورُ دُ وَرُرُورُورُ دُ وَرُرُورُورُ دُورُورُ وَرَرُورُورُورُ دُورُورُورُ مَا مَارُوسُهُ مِنْ مُعْدَدُ مُرَدُورُ وَدِرُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُ دُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُ دُورُورُ دُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُ دُورُورُ دُورُ دُورُورُ دُورُ د

| 333333   |   |
|--|---|
| سِيعِ وِقَامُ 6 (رَمُدُ) وَتُ مُوَسَّمُ مُرَّدَهِ وَثُرِرٍ عَوْدُ مُرِجُ 1 وَ تَامِنَا مَنْ دَرِ سِينِ وِ دُورُ رَثِنْ ثُرِيْ                          | 1 |
| ارى چە ئۇدىد ئردىد ئىرف 1 ئى بائى ئۇئى ئەرسىنىد ئاپىدە ئە زىن ئا ئىرۇد ئەندى<br>ئۇن ئىرۇنىي چە زىرىمۇد ئۇن ئۆر ئۆر ئىزى ئارىدى ئارىنىدى ئارىدى ئۇردۇرى | 2 |
| سوی و و و و و و و و و و و و و و و و و و  | 3 |

- وَقُرِيْ مَرْمَةُ ثُرُ 2014/R-380 (تَا كَامَرُنْ مِنْ وَفُرْدَ ثَرِ مِنْ فُرَدُ مِنْ مُنْ مُرْدُ وَمِ مُرْدُ وَمِ مُرْدُ وَمِ مُرْدُ وَمِ مُرْدُ مُرُدُ مُرْدُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرُدُ مُرْدُونُ مُرْ
  - وَيُرْمُ مِرْمُورُ 14/2013 (مِوْرِيْرُدُجُ وْ عَرْمُودُ وُيْرُودُ وَيُرْدُ
    - وَوْدِوْر مَرْدُوْرُ مُوارْد 49/2016 (عُرُوْرُ وَوْدِوْر)
    - وَيُرْدُ مَرْدُورُ 13/2013 (مُدْعِ عَجَرَر وُيْرُدُ)
- - وَقُرِيرُ مَرْمُونَ لِدُوكِ \$2015/R-223 (لَيْنَا فَي مَرْدِ لِمُرْنَالًا وِثِيرٌ مِدَوْنَا مَرْفَحُ وَعِيدَ وَوَدِيمُ
    - قَتَرْمُ مَرْمَهُمُ 16/2014 (عِرْبِ وْمَرْبُ مَرْمُودِ وَكَرْمُورُ وْمُرْمُودُ وْكَرْمُودُ
- وَهُرِهُ مِنْهُ مُنْ \$3/2015 (وَرِيمِ مُنْهُو، وَمُو مُوْوَهُ وَرِيهُ وَرَدُمُ وَرِيهِ مِنْ وَرَدُرُهُ وَرُدُو وَرُدُو وَرُدُو وَرَدُو وَالْمُوا وَرَدُو وَالْمُوا وَالْمُ وَالْمُوا وَالْمُ وَالْمُوا وَا
- Buchan, B. W., Graham, M. B., Lindmair-Snell, J., Arvan, J., Ledeboer, N. A., Nanchal, R., & Munoz-Price, L. S. (2019). The relevance of sink proximity to toilets on the detection of Klebsiella pneumoniae carbapenemase inside sink drains. *American Journal of Infection Control*, 47(1), 98–100. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2018.06.021
- Iwuala, C., Udujih, O., & Udujih, H. I. (2018). Drinking water quality and occurrence of waterborne diseases in Imo state, Nigeria. International Journal of Infectious Diseases, 73, 217. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2018.04.3907
- Lai, A. C. K., Nunayon, S. S., Tan, T. F., & Li, W. S. (2018). A pilot study on the disinfection efficacy of localized UV on the flushing-generated spread of pathogens. *Journal of Hazardous Materials*, 358, 389–396. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.07.003
- Percival, S., Chalmers, R., Embrey, M., Hunter, P., Sellwood, J., & Wyn-Jones, P. (2004). 35 Emerging waterborne infectious diseases. In S. Percival, R. Chalmers, M. Embrey, P. Hunter, J. Sellwood, & P. Wyn-Jones (Eds.), Microbiology of Waterborne Diseases (pp. 463–468). London: Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-012551570-2/50035-5
- Tulchinsky, T. H. (2018). Chapter 5 John Snow, Cholera, the Broad Street Pump; Waterborne Diseases Then and Now. In T. H. Tulchinsky (Ed.), Case Studies in Public Health (pp. 77–99). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804571-8.00017-2
- Online-medical-dictionary. (2019). Retrieved on 6th March 2019 at: <a href="https://www.online-medical-dictionary.org/definitions-v/vacuoles.html">https://www.online-medical-dictionary.org/definitions-v/vacuoles.html</a>

